

## (۴۲) درودِ دوامی

درودِ دوامی پڑھتے والے کو ان گنت نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اس درود  
 پاک کو کثرت سے پڑھے اسے اپنی قوم، رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بے پناہ  
 شہرت اور عزت ملے گی۔ اور اگر وہ یہ درود پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے جائے تو وہ اس کی  
 عزت کرے گا۔ یعنی اس درود شریف کے پڑھتے والے کے سامنے دنیا مستخر ہوئی جلی  
 جاتی ہے جو شخص اسے روزانہ ۲۱ مرتبہ تاجیات پڑھے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا  
 اور اس کی نیکیوں میں بارش کے قطرہوں کے برابر اضافہ کر دے گا اور اس کا نام تا قیامت  
 زندہ رہے گا حتیٰ کہ اس پر اللہ اپنی رحمت کے اتنے دروازے کھول دے گا کہ جو وہ اللہ

سے مانگے سو پائے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

اے اللہ! درود بھیج ان پر ایسا درود جو دائمی ہو اور جس کا دوام جاری

الدَّوَامِ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ مُتَّصِلَةَ الدَّوَامِ

رہنے والا ہو گردشِ لیل و دنہار کے ساتھ اور اس کا دوام متصل ہو

لَا انْقِضَاءَ لَهَا وَلَا انْقِصَاءَ مَرِّ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ

جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور جس کا کوئی انقطاع نہ ہو گردشِ لیل و دنہار کے

الْآيَامِ عَدَدِ كُلِّ وَابِلٍ وَوَطْنٍ ط

ساتھ ہزار بارش اور شبنم کے ہر قطرہ کے